



ALL INDIA MUSLIM PERSONAL LAW BOARD

آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ

Ref. No.....

24/07/2018
Date.....

پریس ریلیز

دارالقضاء دینی و سماجی ذمہ داری ہے: مولانا عتیق احمد بستوی
دارالعلوم رامپورہ سورت میں ہوگا آفس: مفتی فیصل پٹیل قاضی شریعت مقرر

سورت: مورخہ ۲۲ جولائی ۲۰۱۸ء کو گجرات کے مشہور و معروف صنعتی شہر سورت میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے دارالقضاء کا افتتاح کیا۔ افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے دارالقضاء کمیٹی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے کنوینر حضرت مولانا عتیق احمد بستوی صاحب نے فرمایا کہ نظام قضاء کا قیام نہ صرف یہ کہ سماجی ضرورت ہے بلکہ دینی ذمہ داری بھی ہے۔ موصوف نے مزید فرمایا کہ آپ کو اپنے اختلافات اور تنازعات کو عدالت سے باہر حل کرنے سے ہندوستان کا کوئی قانون نہیں روکتا، اگر آپ خود یہ طے کریں کہ ہم اپنے جھگڑوں کو شریعت کے مطابق دارالقضاء سے اپنا معاملہ حل کرائیں گے جو کہ شرعی طور لازم و ضروری بھی ہے تو یہ ہندوستان کی عدلیہ پر بڑھتے ہوئے بوجھ کو کم کرنے میں معاون ہوگا۔ مولانا نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ اس نظام کو مستحکم کریں۔ جامعہ عربیہ تھوڑا باندہ کے شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی محمد عبید اللہ اسعدی صاحب رکن بورڈ نے شریعت پر عمل کرنے خصوصاً ان معاملات میں جن میں مفادات ٹکراتے ہیں ہوں شریعت پر عمل کرنے کو ایمان کا حصہ قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ ہمیں اس کے ساتھ ساتھ شریعت کی حکمتوں کو بھی لوگوں تک پہنچانا چاہئے۔ قاضی مفتی محمد اشفاق قاسمی قاضی شریعت اولہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ دارالقضاء میں ۸۵ فیصد معاملات آپسی رضامندی سے حل ہوتے ہیں اور ۹۸ فیصد فیصلوں پر عمل بھی ہوتا ہے۔ اس لئے یہ نظام نہ یہ کہ مسلمانوں کے لیے بلکہ پورے ملک کے لیے ایک مفید نظام ہے۔ مولانا تمیز عالم آرگنائزر دارالقضاء کمیٹی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے سرکاری عدالتوں میں زیر غور مقدمات کے اعداد و شمار اور ججوں کی کمی کے بارے میں بتایا کہ ۲۰۱۱ء میں وزیر قانون کی پارلیمنٹ میں پیش کردہ رپورٹ کے مطابق پورے ملک میں ۳۰ ملین مقدمات زیر غور تھے جبکہ ۲۰۱۷ء کی پارلیمنٹ رپورٹ میں کہا گیا کہ یہ تعداد ۳۴ ملین پہنچ گئی ہے یعنی ہر سال ۵۰ ہزار سے زائد پینڈنگ مقدمات میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، نیز ججوں کی کمی کے بارے میں کہا کہ ملک کی آبادی کے تناسب سے ہمارے ملک میں ایک لاکھ سے زائد جج ہونے چاہئے جبکہ ابھی صرف ۲۰ ہزار ججوں کی سیٹیں ہیں جن میں سے ۱۵ ہزار خالی ہیں ایسی صورت حال میں دارالقضاء سرکاری نظام انصاف کو مستحکم کرنے اور ملک کے خزانے پر بڑے والے اخراجات میں کمی لانے والا معاون ادارہ ہے۔ اور کہا کہ ایک ہندوستانی اور محبت وطن ہونے کے ناطے بھی ہمارا یہ فریضہ ہے کہ یہ نظام پورے ملک میں قائم ہو۔ مفتی فیصل پٹیل صاحب کو قاضی شریعت مقرر کیا گیا۔ دارالقضاء کا آفس دارالعلوم رامپورہ سورت میں ہوگا۔ اجلاس کی صدارت مفتی محمود شبیر صاحب مہتمم جامعہ حسینہ راندر و صدر چاند کمیٹی سورت نے فرمائی۔ مفتی عمران مین صاحب نے نظامت کے فرائض انجام دیے۔ کلمات استقبالیہ مفتی اسعد میر قاسمی نائب مہتمم دارالعلوم رامپورہ سورت نے پیش کیا۔ پروگرام میں سورت و اطراف کے علماء، ائمہ، وکلاء و عوامین شہر کے علاوہ عوام کے ایک جم غفیر نے شرکت کی۔ مفتی محمد عبید اللہ اسعدی صاحب کی دعاء پر پروگرام اختتام پذیر ہوا۔

جاری کردہ
دفتر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ

